



سوال

(161) اگر کسی قبر میں مردہ کی ہڈی پائی جائے تو کیا کرے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اگر کسی قبر میں مردہ کی ہڈی پائی جائے تو کیا کرے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلوة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ایسی جگہ دفن کرنا منع نہیں، ہڈی نکال کر مردہ دفن کر دیں۔

شرفیہ :

... مسلم مردہ کی ہڈی کا احترام لازم ہے۔ حدیث نبوی ﷺ ہے :

((کسر عظیم المیت ککسرہ حیاً رواہ ابو داؤد باسناد علی شرط مسلم وزاد ابن ماجہ من حدیث ام سلمہ فی الاثم بلوغ المرام))

لہذا مسلم کی ہڈیوں کو یوں ہی رہنے دیا جائے اور دوسری قبر بنا کر مردہ کو دفن کر دیں۔ ابو سعید شرف الدین دہلوی۔

توضیح الکلام :

... تمام ہڈیوں کو احتیاط سے جمع کیا جائے اور قبر کو تیار اور صاف کر کے میت کو اس میں دفن کیا جائے اور ہڈیوں کو ایک طرف رکھا جائے تو اس میں کوئی ہرج کی بات نہیں۔ جیسا کہ آج کل عرب میں ہو رہا ہے کہ کچھ مدت کے بعد ہڈیوں کو ایک طرف کیا جاتا ہے۔ (سعیدی)



مجلس البحث والدراسات
محدث فتویٰ

فتاویٰ علمائے حدیث

جلد 05 ص 280

محدث فتویٰ